

ریٹائرمنٹ ایک سفر ہے

نہ کہ منزل

کام چلتا رہتا ہے اور کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس دوران آپ اپنی زندگی جینا بھول جاتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات جسمیں آپ کئی سالوں سے مصروف عمل ہوتے ہیں کھو جاتے ہیں۔ اس ہی لیے ہم آپ کے لئے لائے ہیں انویسٹ اینڈ اشور ریٹائرمنٹ پلان جو آپ کو فراہم کرے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد وہ زندگی جو آپ گزار نہ سکے ہوں تاکہ آپ زندگی سے درست طریقے سے لطف اندوز ہو سکیں۔

اُن فوائد سے فائدہ اٹھائیں

جو ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں

- اپنے جمع شدہ سرمائے کی افادیت کو دوبالا کریں دی گئی پنشن آپشنز کی مدد سے
- جمع شدہ سرمائے میں یکمشت اضافہ، فنڈ ایکسلریشن پر بیم کی مدد سے جس سے آپ کو ملے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت ایک خاطر خواہ اضافی رقم
- ریٹائرمنٹ بونس کی مدد سے آپ کے جمع شدہ سرمائے کو ملے قابل ذکر اضافہ



سرمائے میں اضافے کے موقع:

آپ کی اس پلان کیلئے فراہم کردہ رقم سے ای ایف یو میٹجڈ گروتھ فنڈ کے یونٹس کی خریداری کی جائے گی۔ یہ ایک یونٹس کی اکائیوں سے منسلک فنڈ ہے جو کہ ایک متعادل نوعیت میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس فنڈ کا مقصد سرمائے کی افزائش کو معتدل طریقے سے سرمایہ کاری کر کے یقینی بنانا ہے جس کیلئے اس فنڈ میں موجود رقم کی سرمایہ کاری اسٹاک مارکیٹ، گورنمنٹ فکسڈ انکم سیکیورٹیز اور کیش میں کی جاتی ہے۔ سرمایہ کاری کا یہ سار عمل تجربہ کار ماہرین یعنی فنڈ مینجریز کی زیر نگرانی کیا جاتا ہے جو اس امر کو یقینی بناتے ہیں کہ اس تمام رقم کو معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جگہوں پر درست تناسب سے سرمایہ کاری کی جائے تاکہ صارفین کو یقینی فائدہ فراہم کیا جاسکے۔

یونٹ ایکلیکشن اسٹریکچر:

پالیسی سال	یونٹ ایکلیکشن کا تناسب
1	40%
2	80%
3	90%
4 سے 10	100%
11 سے آگے	100% + لائٹنی بونس

یونٹس کی اکائیوں کے لئے (FAP) فنڈ ایکسلریشن پر بیم یونٹ ایکلیکشن کا تناسب 100% ہوگا۔

ریٹائرمنٹ بونس ایکلیکشن:

اس پلان کو جتنے زیادہ عرصے کیلئے جاری رکھا جائے گا اتنے ہی زیادہ فوائد کا حصول ہوگا۔ یہ پلان آپ کو قابل ذکر لائٹنی بونس اضافی یونٹس کی شکل میں فراہم کرتا ہے۔ اگر اس پلان کو شروع کرنے کے بعد 11 سال تک وضع کردہ اصولوں کے مطابق جاری رکھا جائے تو گیارہویں سال کے بعد ہر پانچ سال پر صارف کو یہ بونس فراہم کیا جائے گا۔

سال	ریٹائرمنٹ بونس کے تحت اضافی یونٹ ایکلیکشن کا تناسب
11	30%
16	45%
21	60%
26	75%
31	90%
اور اسی طرح	

اس پلان کے تحت ملنے والے فوائد:

فنڈ ایکسلریشن پر بیم

اس بینیفٹ کے تحت پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت اضافی رقم کی سرمایہ کاری کی جاسکتی ہے۔ اس بینیفٹ کی مدد سے صارف پلان کی میچورٹی پر ملنے والی رقم کو بڑھا سکتا ہے۔ صارف FAP کی ادائیگی پلان لیتے وقت یا پلان کی مدت کے دوران کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔

سرمایہ کاری حفاظت کے ساتھ۔ ڈیٹھ بینیفٹ

آپ جیسے ہی انویسٹ اینڈ اشور ریٹائرمنٹ پلان میں سرمایہ کاری کا آغاز کریں گے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو حاصل ہوگا ایک یقینی مالی تحفظ جو خدانخواستہ وفات کی صورت میں آپ کے پیاروں کو فراہم کیا جائے گا۔

- زریبہ یا بنیادی پلان کی نقد مالیت میں جو بھی زیادہ ہو۔

پلس

- فنڈ ایکسلریشن پر بیم کے تحت لئے گئے یونٹس کی نقد مالیت



میڈیکل ریکوری
بینیفٹ
یہ ایک میڈیکل انشورنس بینیفٹ ہے جو صارف کی علالت کی صورت میں 379 بیماریوں اور زخمی ہونے کی صورت میں واجب الادا ہوگا۔

* ان میں سے کوئی ایک ایکسیڈنٹل رائیڈر لے سکتے ہیں۔

چار جز:

انویسٹ منجمنٹ چارج: کل سرمائے کا 0.125 فیصد
بڈ آفر اسپرڈ: کل پریمیم کا 5 فیصد
ایڈمنسٹریشن چارج: 360 روپے سالانہ

ڈسکلیمر:

- یہ پراڈکٹ EFU لائف انشورنس کی جانب سے انڈرائٹ کی گئی ہے۔ لہذا اس میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کی کسی قسم کی ضمانت یا گارنٹی شامل نہیں اور نہ ہی یہ پراڈکٹ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کی ہے۔ کسی بھی قسم کے کلیم یا مسائل کا حل تصفیہ EFU لائف انشورنس کی ذمہ داری ہے۔
- سروس چارجز اور ٹیکسز کا اطلاق شیڈیول آف چارجز کے مطابق ہوگا جو کہ ٹیکس قوانین کی روشنی میں مروج شدہ ہیں جو ریگولیٹری اداروں نے ترتیب دیئے ہیں۔
- اس معاہدے کے اطلاق کے حوالے سے تفصیل پالیسی دستاویزات میں موجود ہے۔ یہ بروشر پراڈکٹ کے حوالے سے محض ایک معلوماتی جائزہ ہے جس میں اس کے تحت فراہم کردہ فوائد اور خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ای ایف یو لائف انشورنس لمیٹڈ

۳۷-کے، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، کراچی۔ ۵۴۰۰، پاکستان
فیکس: (۱۲۰) ۳۵۴۳ ۹۱۵۷ ای میل: csd@efulife.com
یو اے این: (۰۲۱) ۱۱۱-ای ایف یو-۱۱۱ (۱۱۱-۳۳۸-۱۱۱)

اہلیت کا معیار:

عمر	مدت	کم از کم پریمیم
کم از کم عمر 18 سال	تمام زندگی کا بیمہ مخصوص مدت نہیں ہے	بنیادی پلان 15,000 روپے سالانہ
زیادہ سے زیادہ عمر 65 سال		FAP 15,000 روپے

رائیڈرز:

* ایکسیڈنٹل ڈیٹھ اینڈ سبیلٹی بینیفٹ	بیمہ دار کو کسی حادثے کی صورت میں موت واقع ہو جائے یا معذوری لاحق ہو جائے تو اس فیچر کی بدولت اضافی یکمشت رقم ملے گی۔
* ایکسیڈنٹل ڈیٹھ اینڈ سبیلٹی بینیفٹ پلس	حادثاتی موت و جزوقتی معذوری کے علاوہ اس فیچر کی مدد سے ایک یکمشت رقم ادا کی جائے گی۔ جو کسی بھی قسم کی مکمل معذوری (جو کسی حادثے کی صورت میں لاحق ہوئی ہو)
ایڈیشنل ٹرم انشورنس	اس فیچر کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ صارف اپنی بیمہ پالیسی کی رقم کو بڑھا سکتا ہے جو کہ وفات کی صورت میں ادا کی جائیگا۔
فیملی انکم بینیفٹ	صارف اس بینیفٹ کی مدت کے دوران موت کی صورت میں اُس کے پیاروں کو ماہانہ آمدنی کی ادائیگی کی جائیگی جو کہ باقی ماندہ مدت تک فراہم کی جاتی رہے گی۔
لائف کیئر بینیفٹ پلس	اس کے حصول سے صارف کو بنیادی پلان کے مساوی ایک اضافی رقم حاصل ہوتی ہے جس کی حد زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ ہوتی ہے اور یہ رقم 15 مخصوص انتہائی جان لیوا بیماریوں سے کسی بھی ایک یا زائد کی تشخیص پر ادا کی جاتی ہے۔
ویور آف پریمیم	اگر صارف کسی بھی بیماری یا حادثات معذوری کی وجہ سے اپنا ذریعہ معاش جاری نہ رکھ سکے جس کی وجہ سے پریمیم کی ادائیگی ناممکن ہو جائے تو اس کی بدولت پریمیم کی بقایا ادائیگی مبنی کرے گا۔
ہاسپٹل کیئر بینیفٹ	صارف کے ہسپتال داخل ہونے کی صورت میں یہ بینیفٹ روزانہ کی بنیاد پر ایک رقم فراہم کرے گا۔

کیونکہ میں ریٹائرڈ منٹ کے بعد
باوقار زندگی جینا چاہتا ہوں